


30.08.2016

Appellant in person and Mr. Attaullah, ASI(Lit) alongwith Mr. Farhaj Sikandar, GP for respondents present. Appellant submitted copy of order dated 22.06.2016, whereby he has been reinstated into service. Appellant stated that his grievances has been redressed by departmentally and do not want to contest the appeal, therefore, the instant appeal has become infructuous. File be consigned to the record room.

Announced:  
30.08.2016



Member  
Camp court D.I. Khan


26.04.2016

Appellant in person and Mr. Nazir Ahmad, H.C alongwith Mr. Farhaj Sikandar, GP for respondents present. Representative of the respondents needs time to submit written reply/comments. To come up for written reply/comments on 24.05.2016 at camp court D.I. Khan.

  
Member  
Camp Court D.I. Khan

24.05.2016

Appellant in person and Mr. Ataullah, ASI alongwith Farkhaj Sikandar, GP for respondents present. Written reply not submitted. Requested for time. To come up for written reply on 30.08.2016 at camp court D.I. Khan.


  
Member  
Camp Court D.I. Khan



28.3.2016

Appellant with counsel present. Learned counsel for the appellant argued that the appellant was appointed as constable in Police Department in the year, 2001 and served the department for long four years. It is the contention of the learned counsel for the appellant that the appellant was dismissed from service vide impugned order dated 16.09.2015 on the charge of absence from duty. He further submitted that while working in Mini Operation Branch on Photostat Machine, he was directed to go for constable training w.e.f. 807.2015 which order was recalled by the DIG of Police vide his letter dated 30.7.2015. He further submitted that this order was further withdrawn vide order dated 5.8.2015 but the appellant was not let about this order. Consequently, the appellant was wrongly marked as absent from duty. That no charge sheet or show cause notice were served on him. He further submitted that no enquiry was conducted and without giving any opportunity of hearing, appellant was dismissed from service. Points raised need consideration. The appeal is admitted to full hearing. Process fee and security be deposited within 10 days. Thereafter, notices be issued to the respondents. Case to come up for written reply at camp court, D.I.Khan on 26-4-16.

Appellant Deposited  
Security & Process Fee

  
MEMBER  
Camp court, D.I.Khan

26.01.2016

Counsel for the appellant present and requested for adjournment. To come up for preliminary hearing on 23.2.16 at camp court, D.I.Khan.



MEMBER  
Camp Court, D.I.Khan

23.2.2016

Clerk of counsel for the appellant present and requested for adjournment to produce his senior counsel. To come up for preliminary hearing on 29.3.16 at Camp Court D.I.Khan.






MEMBER  
Camp Court, D.I.Khan

Form- A  
FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No. 1370/2015


S.No.	Date of order Proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
1	07.12.2015	<p>The appeal of Mr. Muhammad Faheem resubmitted today by post Through Mr. Ahmad Ali Advocate may be entered in the Institution register and put up to the Worthy Chairman for proper order.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p> <p>This case is entrusted to Touring Bench D.I.Khan for preliminary hearing to be put up thereon <u>29-12-15</u>.</p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>
2	29.12.2015	<p>Since tour to D.I.Khan for the month of December, 2015 has been cancelled, therefore, case is adjourned to <u>26.1.16</u> for the same.</p> <p style="text-align: right;"> Reader</p>

The appeal of Mr. Muhammad Faheem son of Muhammad Rafique Qureshi Ex-Constable No.1078 Distt. Police D.I.Khan received to-day i.e. on 30.11.2015 is incomplete on the following score which is returned to the counsel for the appellant for completion and resubmission within 15 days.

- 1- Copy of nomination order dated 8.7.2015 mentioned in para-9 (Annexure-I) is not attached with the appeal which may be placed on it.
- 2- Copies of application and statement of allegations mentioned in para-10 &13 of the memo of appeal respectively are not attached with the appeal which may be placed on it.
- 3- Copies of departmental appeal and order dated 26.11.2015 mentioned in para-15 of the memo of appeal are not attached with the appeal which may be placed on it.


No. 1824 /S.T,

Dt. 30-11 /2015

  
REGISTRAR  
SERVICE TRIBUNAL  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
PESHAWAR.

Mr. Ahmad Ali Advocate  
High Court D.I.Khan

Resubmitted after  
fulfilment of  
deficiencies.



1  
2

**BEFORE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**

In Service Appeal No. 1370/2015

**Muhammad Faheem VS. Govt. of K.P.K. etc**  
**Service Appeal**

**Subject: Resubmission of Service after removal of deficiencies.**

*Deficiency No. 1.* The Nomination order dated 08/07/2015, as mentioned in Para No.9 (**Annexure I**) is attached herewith.

*Deficiency No. 2.* Copy of the application for exoneration from training of course referred in Para No.10 (**Annexure J-1**) is attached herewith.

Whereas, Statement of allegations as referred in Para No.13 (**Annexure N-1**) is also enclosed herewith.

*Deficiency No. 3.* Copy of departmental appeal as referred in Para No.15 (**Annexure P**) is enclosed.

Whereas the order dated 26/11/2015 of the respondent No.1 as referred in the Para-15 is oral and no such order in written form has been provided to the appellant therefore, copy of the same cannot be annexed with the appeal. The appellant prays that the appeal may please be treated and proceeded ahead.

Yours Humble Appellant

(Muhammad Faheem)  
Through Counsel



**Ahmad Ali**  
**Advocate Supreme court.**

*Dt.* 05/12/2015

**AFFIDAVIT**

I, *the Appellant*, do hereby solemnly affirm and declare on oath that all the above Para-wise contents are true & correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been deliberately concealed from this Honourable Court.



**DEPONENT**

a

**BEFORE THE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**

Service Appeal No. 1370 of 2015

Muhammad Faheem Vs. Govt. of K.P.K. etc  
**SERVICE APPEAL**

**Index:**

S#	DESCRIPTION OF DOCUMENTS	ANNEXURE	PAGE No.
1.	Grounds of Service Appeal	---	1-8
2.	Copy of Order OB No.920 dated 08/07/2001	A	9
3.	Copy of letter No.11534-35/E-II dated 24/07/2001 for age relaxation by the Inspector General of Police	A-1	10
4.	Copy of appellant's experience certificates	B	11-12
5.	Copy of order OB No.922 dated 28/07/2001 for posting as Operator at Photostat machine	C	13
6.	Copies of commendation certificates and cash rewards	D	14-17
7.	Copy of order OB No.562 dated 25/09/2003	E	18
8.	Copy of office note dated 22/07/2004 of Superintendent DIG D.I.Khan Range office	F	19
9.	Copy of Order bearing No.1577-79 dated 13/04/2015 of DIG D.I.Khan Region	G	20
10.	Copies of medical prescriptions/certificates of petitioner	H	21-24
11.	Copy of letter No.1701/EC dated 08/07/2015	I	25
12.	Copy of the Daily Diary No.18 dated 14/07/2015 regarding arrival of the appellant at Police Training College Sawabi	J	25
13.	application of appellant for Copy of exoneration from recruit course	J-1	26
14.	Copy of letter No.2859/ES dated 30/07/2015 of respondent No.4	K	26
15.	Copy of letter No.2943/ES dated 05/8/2015	L	27




16.	Copies of the attendance register	M	28-31
17.	Copy of application of appellant for the purchase of 'Toner'	M-1	32
18.	Copies of the Statement of Allegations, Charge Sheet and reply of petitioner	N-1, N-2 & N-3	33-37
19.	Copy of impugned letter OB No.1742 dated 16/09/2015	O	38
20.	Copy of impugned order bearing No.4023/ES dated 16/10/2015	P	39
21.	Copies of the correspondence of I.G. Police regarding appeal of appellant	P-1	40-41
22.	Copies of the letters regarding absorption of appellant as junior clerk	Q	42-47
23.	Vakalatnama	---	48

Yours Humble Appellant

  
(Muhammad Faheem)  
Through Counsel

  
Ahmad Ali  
Advocate Supreme court

  
Miss Shumaila Awan  
Advocate High Court, D.I.Khan.

Dt. 28/11/2015

**BEFORE THE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**

Service Appeal No. 1370 of 2015

**Muhammad Faheem** son of Muhammad Rafique, caste. Qureshi,  
resident of Mohallah Kirri Alizai, D.I.Khan. Ex-constable-1078

*Appellant*  
M.W.F. PROVINCE  
Service Tribunal  
Diary No. 1385  
Date 30-11-2015

**VERSUS**

1. Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, through Secretary Home & Tribal Affairs Department, Peshawar.
2. Secretary to Govt. of K.P.K. Home & Tribal Affairs Department, Peshawar.
3. Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar
4. Deputy Inspector General of Police, Dera Ismail Khan Region, Dera Ismail Khan.
5. District Police Officer, Dera Ismail Khan.

*Respondents*

**SERVICE APPEAL UNDER SECTION 4 OF THE K.P.K.  
SERVICE TRIBUNALS ACT, 1974, AGAINST ORDER OB  
No.1742 DATED 16/09/2015 OF THE RESPONDENT  
NO.5 WHEREBY THE APPELLANT WAS DISMISSED FROM  
SERVICE AND ALSO AGAINST THE ORDER BEARING  
No.4023/ES DATED 16/10/2015 OF THE  
RESPONDENT NO.4 WHEREBY APPEAL OF APPELLANT  
WAS DISMISSED.**

**PRAYER:**

**ON ACCEPTANCE OF PRESENT SERVICE APPEAL AND BY  
SETTING ASIDE IMPUGNED ORDER OB No.1742  
DATED 16/9/2015 AND WELL AS ORDER BEARING  
No.4023/ES DATED 16/10/2015 AND ORDAL  
ORDER DATED 26/11/2015 OF IGP, THE APPELLANT  
MAY PLEASE BE REINSTATED INTO SERVICE WITH ALL  
BACK BENEFITS.**

Filed to the  
Registrar  
Peshawar

*[Handwritten signature]*

**Respectfully Sheweth,**

1. That the appellant was appointed as constable in the Police Department D.I.Khan as Constable and was allotted constabulary No.1078 vide Order OB No.920 dated 08/07/2001 **(Annexure A)** by the then Superintendent of Police, D.I.Khan. Prior to his appointment, the appellant was also granted age relaxation by the Inspector General of Police vide letter No.11534-35/E-II dated 24/07/2001 **(Annexure A-1)**.
2. That the appellant was previously having experience as Photocopier Operator and in this regard appellant's experience certificates are enclosed as **Annexure B.**
3. That as there was a need of Photostat Machine Operator in the Office of the then Superintendent of Police D.I.Khan to handle the photocopier machine, therefore, the appellant owing to his experience was posted as Operator at Photostat machine vide order OB No.922 dated 28/07/2001 **(Annexure C)**.
4. That thereafter the appellant started to work as Photostat Machine Operator and performed his duties as such with due zeal, care and devotion. In recognition of the efficient performance of his duties as Photostat Machine Operator, the appellant was awarded rewards and commendation certificates on a number of occasions. Copies of commendation certificates and cash rewards are enclosed as **Annexure D.**
5. That in the year 2003 the appellant was nominated for police training but later his name was withdrawn and vide order OB No.562 dated 25/09/2003 **(Annexure E)** the then District Police Officer, D.I.Khan, permanently transferred the appellant from Police Lines, D.I.Khan, and posted to DPO D.I.Khan as Photostat Machine Operator.
6. That the Office Superintendent DIG D.I.Khan Range vide his office note dated 22/07/2004 **(Annexure F)** requested to post the appellant in the Range Office, D.I.Khan, as Photostat Machine Operator. It is pertinent to mention here that the

appellant in the interest of public service and to streamline the official work of Photostat Machine was not sent by his superiors to the police training. Had the appellant would have sent to training, he would have been serving as ASI in the present days; but the appellant for the service and safety of public, scarified his entire career and is still drawing the pay as Constable.

7. That the DIG D.I.Khan Region vide Order bearing No.1577-79 dated 13/04/2015 (**Annexure G**) constituted a 'Mini Operation Branch' with Computer, Telephone, Fax and E-mail facilities; and the appellant was also posted there to handle Fax and E-Mail facility in addition to his own work as Photocopier Machine.
8. That now appellant is having age of 42/43 years and is suffering from the spinal cord problems and the doctors advised the appellant from hard/heavy-work. Copies of medical prescriptions/certificates of petitioner are enclosed as **Annexure H.**
9. That in the meanwhile appellant was nominated by the respondent No.5 vide letter No.1701/EC dated 08/07/2015 (**Annexure I**) to complete the recruit course from Police Training College Sawabi.
10. That the appellant communicated all his medical prescriptions etc to the Police Training College Sawabi and thereafter also arrived there on 14/7/2015. In the said training college one Riaz Khan SI refused to accept the appellant for recruit course as no fitness certificate and medical tests, necessary for police training, were not sent to the college from the office of DPO D.I.Khan. Copy of the Daily Diary No.18 dated 14/07/2015 regarding arrival of the appellant at Police Training College Sawabi is enclosed as **Annexure J** while application of appellant for exoneration from recruit course is enclosed as **Annexure J-1.**

11. That in the meanwhile vide letter No.2859/ES dated 30/07/2015 (**Annexure K**) the respondent No.4 withdrawn the name of appellant from the Nominal Roll of recruit constables and thereby cancelled the order dated 08/07/2015 of the respondent No.5. But later-on the letter dated 30/07/2015 was cancelled by the respondent No.4 vide letter No.2943/ES dated 05/8/2015 (**Annexure L**). However, the appellant was orally directed by the respondent No.4 to keep continue duties in DIG Office.
12. That the appellant remained present on duty in the DIG Office D.I.Khan till 18/09/2015 and also marked his attendance on the attendance register. In the meanwhile the appellant had also applied for the purchase of 'Toner' which was allowed by respondent No.4. During the month of August-2015 period appellant had also availed one-week medical leave. Copies of the attendance register are enclosed as **Annexure M** while application of appellant for the purchase of 'Toner' is enclosed as **Annexure M-1**.
13. That in the meanwhile appellant was proceeded against departmentally on the allegations that appellant remained absent from Police Training College Sawabi w.e.f. 08/07/2015 to 15/09/2015, whereas in-fact the appellant was performing duties in the DIG Office D.I.Khan during this entire period on the directions of DIG D.I.Khan. The appellant submitted his reply to the charge sheet etc. Copies of the Statement of Allegations, Charge Sheet and reply of petitioner are enclosed as **Annexure N-1, N-2 & N-3** respectively.
14. That after the completion of biased and partial departmental inquiry the respondent No.5, without giving opportunity of hearing to the appellant, dismissed the appellant from service vide impugned letter OB No.1742 dated 16/09/2015 (**Annexure O**).

15. That the aggrieved of the impugned order of dismissal from service, the appellant preferred an appeal before the respondent No.1 and the same was also dismissed vide order bearing No.4023/ES dated 16/10/2015 (**Annexure P**). Thereafter the petitioner approached to office of I.G.Police. The Record was requisitioned by the IG Police vide letter No.5230/15 dated 30/10/2015 and appeal was dismissed vide oral order dated 26/11/2015 (**Annexure P-1**) and now the said appeal has been filed; thus this Service Appeal is in time.
16. That aggrieved of the impugned orders dated 16/09/2015 and 16/10/2015, issued by the respondents No.5 & 4 respectively, the appellant wants to impugn both the said orders before this Honourable Tribunal on, inter alia, the following grounds:

**GROUND:**

- i.* That the both the impugned orders dated 16/09/2015 and 16/10/2015, issued by the respondents No.5 & 4 respectively, are ultra-vires, whimsical, outcome of malafide, based on discrimination, against law and facts therefore, the same are liable to be set aside.
- ii.* That the appellant has been dismissed from service only on the allegation of alleged absence from Police Training College for recruit course. But firstly the college was not provided with any fitness/medical certificate from office of DPO D.I.Khan, while secondly the appellant was orally directed by the DIG D.I.Khan to keep continue official duties in the DIG Office and to this effect application of appellant for purchase of toner was also allowed. Moreover, in the month of august-2015, appellant was also granted one-week medical leave. Thus there is absolute no absence from duty by the appellant at all. Hence, impugned orders are illegal, unlawful and are not tenable in the eyes of law.
- iii.* That appellant has not been given final show cause notice for the imposition of major penalty nor any opportunity of personal audience has been given to him. Thus the appellant has been condemned unheard.
- iv.* That after his appointment as constable, on the directions of his superiors the appellant started to work as Photostat

6  
2

Machine Operator and performed his duties as such with due zeal, care and devotion. In recognition of the efficient performance of his duties as Photostat Machine Operator, the appellant was awarded rewards and commendation certificates on a number of occasions.

- v. That the appellant in the interest of public service and to streamline the official work of Photostat Machine was not sent by his superiors to the police training and now the petitioner owing to his age and spinal cord problems is unable to get through recruit course. Had the appellant would have sent to training, he would have been serving as ASI in the present days; but the appellant for the service and safety of public, scarified his entire career and is still drawing the pay as Constable. Hence, by dismissing the appellant a great injustice has been done to the appellant.
- vi. That no proper inquiry has been conducted into the matter and no evidence of his attendance at DIG Office has been collected by the Inquiry Officer. On this score too the impugned orders are not worth to be maintained.
- vii. That there is absolutely no absence on the part of appellant nor he escaped from his duties rather he was performing his duties in the DIG Office in the interest of public service. As being a member of "Mini Operation Branch" to handle the Fax and E-mail facility the appellant remained present over there because of involvement of various issues for the security of District. Operation of Photostat machine was also in full spin. But such performance of duties has not been looked into.
- viii. That the circumstances of the case are not such that this Honourable Tribunal ought not to exercise its equitable jurisdiction in the matter and the appellant thus seeks the indulgence of this Honourable Tribunal for redress of his grievance against the respondents.

- 7
- 7
- ix. That during the span of his service the appellant on a number of occasions applied/requested for his absorption into Junior Clerk and in this regard a numerous correspondence took place but of no avail. Copies of the letters regarding absorption of appellant as junior clerk are enclosed as **Annexure Q.**
- x. That the counsel for appellant may be allowed to raise additional grounds at the time of arguments.

It is, therefore, humbly prayed that on acceptance of the present appeal and by setting aside the impugned orders, appellant may please be reinstated into service along with all back/future benefits; and any other appropriate relief, which this Honourable Tribunal, in the given circumstances, may deem fit in the interest of justice may also be granted to the appellant.

Yours Humble Appellant

  
(Muhammad Faheem)  
Through Counsel

  
Ahmad Ali  
Advocate Supreme court

Dt. 28 /10/2015

  
Miss Shumaila Awan  
Advocate High Court, D.I.Khan.



**BEFORE THE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**

**Service Appeal No. \_\_\_\_\_ of 2015**

**Muhammad Faheem Vs. Govt. of K.P.K. etc**  
**SERVICE APPEAL**

**CERTIFICATE**

I, *the appellant*, do hereby certify that it is the first Service Appeal on behalf of appellant and no appeal on the subject has earlier been filed.

  
**Appellant**

**AFFIDAVIT**

I, *the Appellant*, do hereby solemnly affirm and declare on oath that all the Para-wise contents of above **Service Appeal** are true & correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been deliberately concealed from this Honourable Court.

  
**DEPONENT**

(2)

Ann. A

9

سٹیٹس ٹیم اور ورنس قوم قرینی سکول میں اسٹاٹس

کے ساتھ ڈیڑھ سال تک تعلیم کے لیے جسکا

نمبر 5-7 ہے جسکی 34x36 تعلیم 1078 اور عمر بمطابق

سکول سٹریٹیکٹ 26 سال 6 ماہ 26 دن کے اور  
رائٹرز کی کنڈیشن (age relaxation) کو (1) ایچ ٹی نمبر 1153485/24-11-2009  
کی پروسیجر کے تحت دیے گئے ہیں۔ (2) ایچ ٹی نمبر 1628/25-11-2009 کے حوالے سے  
(3) ایچ ٹی نمبر 25/11-2009 کے حوالے سے

کو پورے وقت اور تعلیق چال چلن موزوں پایا جانے  
کے بعد حکم پورے ضلع ڈیڑھ سال میں مورثہ 27/7 سے عرصہ آزمائشی

تین سال کیلئے عارضی طور پر پمپنگ سٹیشن مہرتی کیا جا کر ضلع نڈا کا

کامپلیٹ کیا گیا ہے۔ 1078 الاٹ کیا جاتا ہے۔

حکم درج آرڈر کیس نمبر

کافی  
Superintendent of Police  
(S. D. Singh) (11/11/2009)

411  
920  
10 8-7-201

Attest

*[Signature]*

Ann: A-1 10  
2

ORDER



The Upper age limit of one year and 7 months in r/o Sahibzada Mohammad Faheem S/O Sahibzada Mohammad Rafique r/o Mehalla Kirri Alizai City D.I.Khan for enlistment as Constable in Police Department is hereby condoned but recruitment shall be on merit.

MOHAMMAD SAEED KHAN  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE,  
NWFP, PESHAWAR.

No. 11534-35 /E-II, dated Peshawar, the 24/7 /2001.

Copy of above is forwarded for information and necessary action to the:-


1. DIG of Police, D.I.Khan Range, D.I.Khan w/r to his memo: No. 1617/ES, dated 21.7.2001.
2. Sahibzada Mohammad Faheem S/O Sahibzada Mohammad Rafique r/o Mehalla Kirri Alizai City D.I.Khan.

  
(HAJI QUDRAT SHAH)  
REGISTRAR,  
FOR INSPECTOR GENERAL OF POLICE,  
NWFP, PESHAWAR.  


No 1628/ES dt 25-7-2001

Copy to SP. D.I.Khan for info and  
action w/r to his memo no 14206 dt  
21-7-2001.

Attest  


  
M. Aman Khan  
REGISTRAR,  
NWFP, PESHAWAR.  
25/7

1/1/01

Ann: B //



**TEKSER**

İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Date: 08/12/2000

**TO WHOM IT MAY CONCERN:**

This is to certified that Mr. Muhammad Fahim S/o Muhammad Rafique working as Photocopier from 25/03/1998 To 05/12/2000 in Admin & Finance Department at our Chashma Right Bank Canal, Project Dera Ismail Khan.

During his stay we found him very hardworking, competent, honest, dutiful and dependable person. He makes happy team and will prove useful for any company.

We wish every success in his future life.

**Recepali SIMSEK**  
Admin & Finance Manager

*Attested*



# CHINA PETROLEUM ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION

Indus Highway Project N-55 Contract-10 Office: Near Anjumabad University Road,  
P.O.Box 34, D.I.Khan Ph: (0961) 713159 Fax (0961) 710652

12  
2

## TOWHOMETMAYCONCERN

Certified that Mr. MUHAMMAD FAHIM s/o MUHAMMAD RAFIQ R/O D.I.Khan worked in our corporation as a PHOTOCOPY OPERATOR AND PHOTOCOPY MECHANIC. From 2-2-94 to 5-2-97.

He is well versed with all the trades concerning to his job. Further, he is an honest, hardworker and reliable fellow. We do wish all success in his life.

CHINA PETROLEUM ENGINEERING  
CONSTRUCTION CORPORATION  
3rd KS. IN CHARGE  
CPECC C-10  
D. I. KHAN.

Dated: - 20/2/97

*Attested*

9  
13  
Ann. C 13

ORDER.

Constable Muhammad Faheem No.1078 of this District Police is hereby Posted as Operator at Photo Stat machine with immediate effect.



( ARIF NAWAZ KHAN )  
Superintendent of Police,  
Dera Ismail Khan.

28/7

OB 922  
28.7.2017

Attested  
\*

POLICE DEPARTMENT

DIKHAN REGION

OFFICE OF THE DY: INSPECTOR GENERAL OF POLICE, DIKHAN REGION, DIKHAN



Commendation Certificate

Class-II

Rs. 2000 /-

Awarded to

SAHIBZADA M. FAHIM, FAX/PHOTOSTAT OPERATOR  
RANGE OFFICE, D.I.KHAN


IN RECOGNITION OF

His good performance during Muharram-2014.

Ann.D 14 =

OB.No. 350-A

Date 10.11.2014

  
Dy. Inspector General of Police,  
Dikhan Region, Dikhan

*Attested*

ORDER

15  
2

Mr. Muhammad Fahim of D.I.Khan District is hereby granted CC Class with cash reward Rs. 500/- for his good performance of duty.

*MHA*  
(MOHAMMAD HABIB-UR-RAHMAN) PPM  
Deputy Inspector General of Police,  
Dera Ismail Khan

No. 170/1 dated D.I.Khan the 7-May, 2008

Forwarded to the District Police Officer, D.I.Khan for information & necessary action

*MHA*  
(MOHAMMAD HABIB-UR-RAHMAN) PPM  
Deputy Inspector General of Police,  
Dera Ismail Khan

**DISTRICT POLICE, DERA ISMAIL KHAN**



**ACKNOWLEDGEMENT  
CERTIFICATE**

In recognition of best services rendered by  
Mr. Const: Muhammad Faheem No 1078 (Operator)  
On the eve of Muharram-2002/Referendum-2002, including  
field performance, the officer is awarded cash amount of  
Rs. 150 /- With Class-III certificate.

OB No. 754, dt: 30.5.2002.

*[Signature]*  
Superintendent of Police,  
Dera Ismail Khan


*Attested*  
*[Signature]*





16  
2

COMMENDATION CERTIFICATE CLASS - II



AWARDED TO

Const: Muhammad Faeem 1078 (operator)  
of D.I. Khan District

with cash reward of Rs. 500/-

IN RECOGNITION OF

For his good performance of duty.

*M. A. Mar*  
For Deputy Inspector General of Police,  
Dera Ismail Khan

No. 1791  
Dated: 8th May, 2008

Attested  
*[Signature]*

OFFICE OF THE DISTRICT POLICE OFFICER



DERA ISMAIL KHAN

COMMENDATION CERTIFICATE CLASS - III

With cash reward of Rs. 200/-

Granted to Mr.

FC S.M. Mohammad Faliq 1078

District Dera Ismail Khan in recognition of Good Performance of Duties

OR No. 2327

Dated 3-12-2014

DISTRICT POLICE OFFICER  
Dera Ismail Khan.

*Attested*  
*[Signature]*

17

ORDER

Ann. E 18  
2

Constable Muhammad Fahim No. 1078, of this district Police is hereby transfer from Police Lines, DIKhan and posted to D.P.O, DIKhan as Photostat Machine Operator with immediate effect. He will be responsible for the proper maintenance of the Photostat machine.



Capt: (USMAN ZAKRIA) PPM  
District Police Officer,  
Dera Ismail Khan.

OD / 562  
40 / 257 6700 3

Attested  
\*

F

1078

19

Ann. F =

Sir,

The services of Constable Muhammad Fahim No.1078 now in Police Lines, D.I.Khan on general duties who is conversant to operate Photostat machine, are required in Range Office, D.I.Khan for the purpose.

Therefore, kindly allow detailing him from Police Lines, D.I.Khan to Range Office in the interest of Govt; work, please.

Thanking you Sir,

Mosam Khan  
(Mosam-Khan)  
Office Superintendent 22/7

W/DIG

A. Ahmad

H. Q. Q.

Allowed

Asst. Super of Police  
HQ D.I.Khan  
Asst. Khan

Approved

District Police Officer  
Dera Ismail Khan  
22/7/04

809

227154

Attested


ORDER

Ann: G  
=

20  
/4

In the light of directions of Worthy Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar during meeting held on 25.03.2015, a **MINI OPERATION BRANCH** is hereby constituted with immediate effect. Computer, telephone (No.0966-720302), fax & email facilities has been provided to the branch. The following staff is hereby posted to handle all kind of letters/works with quarter concerned and to maintain proper record in addition to their own duties.

1. Mr. Abdul Ghaffar, Asstt: Grade Clerk (Incharge)
2. Mr. Ikramullah, Senior Clerk
3. Mr. Irfan Latif, Junior Clerk
4. Head Constable Salah-ud-Din
5. Constable Muhammad Fahim


  
(ABDUL GHAFOOR AFRIDI)  
PSP, PPM  
Dy: Inspector General of Police,  
Dera Ismail Khan Region

No. 1577 791 E/S date 13-04-15

Copy of above is submitted for favour of information to:-

1. The Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar w/r to his office letter No 4659-67/OS (Ops), dated 09.04 2015.
2. The Addl: Inspector General of Police, Operations, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar
3. The District Police Officer, DIKhan
4. The District Police Officer, Tank
5. The Superintendent of Police, Investigation, DIKhan
6. The Superintendent of Police, Investigation, Tank
7. Reader to DIG of Police, DIKhan
8. All concerned.

Attested  


  
(ABDUL GHAFOOR AFRIDI)  
PSP, PPM  
Dy: Inspector General of Police,  
Dera Ismail Khan Region

Ann: H

جناب عالی:

گزارش ہے کہ من سائل کافی عرصہ سے ریڑھ کی ہڈی کی مرض میں مبتلا ہے۔  
ڈاکٹر صاحب نے من سائل کو Bed rest تجویز فرماتے ہوئے سخت جسمانی کام کرنے سے  
اجتناب کرنے کا کہا ہے۔ من سائل کی اس بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 یوم میڈیکل  
Leave منظور فرما کر مشکور فرمادیں۔ (میڈیکل ہمراہ لف ہے)۔

عین نوازش ہوگی۔

مورخہ 22.08.2015

العارض

صاحبزادہ محمد فہیم 1078/FC، ڈیرہ اسماعیل خان

Atkisteeel

\*

**D.H.Q TEACHING HOSPITAL D.I.KHAN.**  
**Out Door Patient's Department**

Name \_\_\_\_\_  
 Yearly No. \_\_\_\_\_ Rs. 5/-  
 Date 7/1/20 \_\_\_\_\_ Disease \_\_\_\_\_

UBP / ventricular Problem

△△ Tas. Voldera  
 1-2-1

Tas. M. W. O. A.  
 1-2-1

Cap. P. S. S. M.  
 1-2-1

Rest 15 days

Medical Specialist  
 D.H.Q.T. Hospital  
 D.I.Khan

Attested

**D.H.Q TEACHING HOSPITAL D.I.KHAN.**  
**Out Door Patient's Department**

Name \_\_\_\_\_  
 Yearly No. \_\_\_\_\_ Rs. 5/-  
 Date 24/1/20 \_\_\_\_\_ Disease \_\_\_\_\_

Backache  
 + R/L legs  
 pain

Dis. Brain 20/1  
 1-2-1  
 Dis. Subarach. P. S. S. M.  
 1-2-1

Dis. 20/1  
 1-2-1

Medical Specialist  
 D.H.Q.T. Hospital  
 D.I.Khan

Tas. Voldera  
 1-2-1

## بخدمت جناب کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ سکول، صوابی

جناب عالی!

معروض ہوں کہ من سائل محکمہ پولیس ڈیرہ اسماعیل خان میں عرصہ 14/15 سال سے بطور کنسٹیبل بھرتی ہو کر اپنی خدمات بطور فوٹو اسٹیٹ / فیکس مشین آپریٹر دفتر جناب DIG صاحب، ریجن ڈیرہ اسماعیل خان میں سرانجام دیتا آ رہا ہے۔ چونکہ محکمہ پولیس میں اس وقت کوئی اسامی فوٹو اسٹیٹ آپریٹر کی موجود نہ تھی اس لئے من سائل کو بطور کنسٹیبل بھرتی کیا گیا اور من سائل کو کنسٹیبل ری نمبر 1078 الاٹ کیا گیا۔ اب جبکہ من سائل کی عمر 42/43 سال ہے اور من سائل کے قومی اور صحت اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ ریکروٹی کورس جیسی سخت جسمانی ورزشیں کر سکوں۔ علاوہ ازیں من سائل گھریلو طور پر مالی حوالہ سے انتہائی پریشان حال ہیں۔ اس وجہ سے ان حالات میں من سائل مذکورہ بالا کورس کرنے سے قاصر اور Unfit ہے۔


لہذا دست بستہ ہو کر من سائل التماس کرتا ہے کہ من سائل کو میڈیکل بنیادوں پر Unfit قرار دیتے ہوئے ضلع واپس فرمایا جاوے۔  
نوٹ: میڈیکل سرٹیفکیٹ ہمراہ لف ہیں۔

آپ کی عین ماتحت پروری ہوگی۔

مورخہ 08.07.2015

## العارض

صاحبزادہ محمد فہیم، فوٹو اسٹیٹ / فیکس مشین آپریٹر، دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان۔



Attestd  
\*



# D.H.O TEACHING HOSPITAL D.I.KHAN.

**Out Door Patient's Department**

Name AKA

Yearly No. \_\_\_\_\_ Rs. 5/-

Date 8/2/15 Disease Bacteriella

+ Red legs pain

100s Bismar 2mg  
Adm (10)  
100s Daptax  
100s Nuboral 2g

100s Ziegels  
100s Nuboral  
7/11/15

Attested

# D.H.O TEACHING HOSPITAL D.I.KHAN.

**Out Door Patient's Department**

Name Uqar Ahmad

Yearly No. 59773 Rs. 5/-

Date 31/7/2015 Disease \_\_\_\_\_

Bacteraemia  
+ Red legs pain

100s Bismar 2mg  
100s Nuboral 2g  
100s Ziegels

Adm 100s (15 days)  
100s Nuboral 2g

Junior Registrar  
D.H.O. Teaching Hospital  
D.I.Khan

# D.H.O TEACHING HOSPITAL D.I.KHAN.

**Out Door Patient's Department**

Name AKA

Yearly No. \_\_\_\_\_ Rs. 5/-

Date 5/8/15 Disease Bacteriella

+ Red legs pain

100s Bismar 2mg  
100s Nuboral 2g  
100s Ziegels

Adm 100s (15 days)  
100s Nuboral 2g

Junior Registrar  
D.H.O. Teaching Hospital  
D.I.Khan

70

Annexure "I"

From:- The District Police Officer,  
Dera Ismail Khan.

To:- The Principle,  
Police Training School,  
Swabi.

2  
2


No. 1701 /EC dated DIKhan the 08 07- /2015.

Subject:- NOMINAL ROLLS.

Memo:


Kindly refer to Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar office letter No.4088-957Trg., dated: 03.07.2015.

Nominal rolls of 51- Recruit Constables of this District Police selected for Recruit Course commencing at PTS Swabi w.e.from 08.07.2015 is submitted herewith for further proceeding, please.

  
District Police Officer,  
Dera Ismail Khan

No. 1702 /EC

Copy of above is submitted to the Regional Police Officer, Dera Ismail Khan for favour of information w/r to PPO/KPK, Peshawar office letter No. quoted above, please.

  
District Police Officer,  
Dera Ismail Khan

Attested



*Allo Shid*  
✱

	Constable Muhammad Jaleel No. 1941 s/o Mohammad Ibrahim r/o Zor Floor Mill Dingar PS/Cantt:	DIKhan	DIKhan	DIKhan	25.02.1994	01.01.2015	12101-0222743-5	B+ve	0345-9824482	10 <sup>th</sup>	5' 7 1/2"	33"x34 1/2"	
	Constable Mohammad Asif No. 1941 s/o Malik Mahi r/o Bilal Abad Muryali PS/Cantt:	DIKhan	DIKhan	DIKhan	25.05.1992	01.01.2015	12101-5905209-9	C+ve	0346-8885269	F.Sc	5' 7 3/4"	34"x36"	
15	Constable Salah-ud-Din No. 577 s/o Saad-ud-Din r/o Abdul Khel PS/SNK	Paharpur	DIKhan	DIKhan	06.11.1987	01.01.2015	12103-0898189-1	B+ve	0345-9832855	10 <sup>th</sup>	5' 7 3/4"	32" x 34"	Condoned by 1 1/2" Chest vide RPO/DIKhan order Endst: No.524/ES, dated: 13.02.2015
17	Constable Abu Bakar No. 1593 s/o Falak Sher r/o Bilal Abad PS/Cantt:	DIKhan	DIKhan	DIKhan	10.05.1995	01.01.2015	12101-3199869-5	A+ve	0343-9907117	B.A	5' 7 1/4"	33" x 34 1/2"	
18	Constable Mohammad Fahim No. 1078 s/o Mohammad Rafiq r/o Kirri Alizai PS/City	DIKhan	DIKhan	DIKhan	01.01.1975	27.07.2001	12101-0930939-1	AB+ve	0344-9381575	10 <sup>th</sup>	5' 7 1/2"	34" x 36"	
19	Constable Nazim Hussain No. 7998/FRP s/o Mulazim Hussain r/o Jhoke Malkani PS/Paharpur	Paharpur	DIKhan	DIKhan	05.03.1992	01.01.2015	12103-0562560-1	B+ve	0346-5273184	F.A	5' 7 1/2"	34" x 34 1/2"	
20	Constable Rajab Ali No. 7808/FRP s/o Gulzar Hussain r/o Kukar PS/saddar	DIKhan	DIKhan	DIKhan	12.01.1992	01.01.2015	12101-1775544-9	A+ve	0343-8951541	DAE	5' 7 1/2"	33 1/2"x35 1/2"	
21	Constable Sibghatullah No. 7834/FRP s/o Saleh Khan r/o Zamirabad Muryali PS/Cantt:	DIKhan	DIKhan	DIKhan	11.12.1994	01.01.2015	12101-6247057-1	B+ve	0333-9987760	F.A	5' 8 3/4"	33" x 34 1/2"	
22	Constable Naqeebullah No. 7847/FRP s/o Saifullah Khan r/o Bahadri PS/Yarik	DIKhan	DIKhan	DIKhan	18.01.1995	01.01.2015	12101-1193199-5	A+ve	0342-7977479	D.Com	5' 8"	34 1/2"x36 1/2"	
23	Constable Mohammad Asif Shah No. 7884/FRP s/o Syed Nazir Hussain Shah r/o Mubarik Shah PS/Band Kurai	Paharpur	DIKhan	DIKhan	07.04.1992	01.01.2015	12103-3599130-1	A+ve	0341-4856899	B.A	5' 8 1/2"	33"x34 1/2"	
24	Constable Rashid Iqbal No. 7938/FRP s/o Nasrullah Khan r/o Lang Khair Shah PS/Band Kurai	Paharpur	DIKhan	DIKhan	05.01.1991	01.01.2015	12103-3588813-1	A+ve	0346-3680885	F.A	5' 7 1/4"	33 1/2"x34 1/2"	
25	Constable Haseeb-ul-Hassan No. 7715/FRP s/o Mohamma Yousif r/o Awan Abad PS/Cantt:	DIKhan	DIKhan	DIKhan	31.10.1993	01.01.2015	12101-6252511-9	A+ve	0315-9638153	F.A	5' 7"	33" x 34 1/2"	
26	Constable Mohammad Rizwan No. 7680/FRP s/o Mohammad Ramzan r/o Gulshan Qarnar PS/Cantt:	DIKhan	DIKhan	DIKhan	10.01.1992	01.01.2015	12101-0276899-1	B+ve	0346-3518446	F.Sc	5' 8 1/2"	33" x 34 1/2"	
27	Constable Saqib Ali No. 7642/FRP s/o Khadim Hussain r/o Kurai PS/Saddar	DIKhan	DIKhan	DIKhan	16.03.1994	01.01.2015	12101-1823524-1	A+ve	0344-8958149	F.A	5' 9"	33" x 34 1/2"	
28	Constable Mohammad Rasheed No. 7633/FRP s/o Nazar Mohammad r/o Jhok Dabri PS/K.Khaisore	Paharpur	DIKhan	DIKhan	09.09.1992	01.01.2015	12103-6655886-1	A+ve	0314-3410679	F.A	5' 7 1/4"	33" x 34 1/2"	

Ann: 25  
2

دیس PTS

18 روزہ 7  
8-15

کلمہ ہندی

18 روزہ آواز طاہر خان ای وقت 1900ء فوراً 8 مقام طوچکورت (DI) کمیشن  
 ڈیکوٹ 7280 سجاد 7980 م ریکورڈنگ 49 نوٹنگ ٹاٹا فیل  
 رول 4 مڈل فٹنس سرٹیفکیٹ فوڈ ریکورڈنگ می ساغان  
 سرکارنا دخیلے کوام فوٹی ریکورڈنگ ٹاٹا فیل 1702  
 8-6-15  
 پروگرام خالص آریا - فوڈ ریکورڈنگ اور ایس 1865  
 محمد نسیم 1978 مڈل ڈیکوٹ سے غیر حاضر ہے اب مقام میسران  
 مردہ فارغ شدہ ریکورڈنگ 6 فوٹو ریکورڈنگ آئندہ مڈل ڈیکوٹ/FRP  
 گورنمنٹ آف روڈنگ فوڈ ریکورڈنگ کا پیرتا ہے  
 کالج ریکورڈنگ لڈ ٹرارتے ریسیس 12 دن اپنی خائرس  
 کارپوریشن آریا

خانہ کالہ

فیل علی علی علی

M/ku  
 MAsi PTS-Swabi  
 14-7-15

Attested  
\*

## بخدمت جناب انسپکٹر جنرل آف پولیس، خیبر پختونخواہ، پشاور

جناب عالی!

معروض ہوں کہ من سائل مورخہ 24.07.2001 کو محکمہ پولیس میں بھرتی ہوا۔ چونکہ محکمہ پولیس میں فوٹو سٹیٹ یا فیکس آپریٹنگ کی کوئی Sanctioned Post نہ ہے اس لئے من سائل کو فوٹو سٹیٹ آپریٹنگ کی بنیاد پر کنسٹیبل بھرتی کیا جا کر 1078 نمبر بھی الاٹ ہوا۔ اس وقت کے SSP(DPO) جناب عارف نواز صاحب نے من سائل کو چونکہ محض فوٹو سٹیٹ آپریٹنگ کی خدمات کے لئے ہی بھرتی کیا تھا اس لئے مجھے ریکروٹی ٹریننگ کے لئے نہیں بھیجا گیا۔ من سائل نے اپنی سروس کے دوران DPO دفتر اور حالیہ دفتر جناب DIG صاحب میں بطور فوٹو سٹیٹ آپریٹر کام کیا اور میری بہترین خدمات کے اعتراف میں کئی مرتبہ تعریفی اسنادوں نقد انعامات سے نوازا گیا۔ من سائل نے اپنی ڈیوٹی ہمیشہ دیاستداری اور فرض شناسی سے شب و روز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سر انجام دی۔ اسی نسبت میری تعیناتی Mini Operation Branch جو کہ ریج آفس میں واقع ہے، میں بھی خدمات حاصل کی جاتی رہیں۔ من سائل کے اپنے فرائض منصبی کے علاوہ دیگر امور مثلاً DIG صاحبان کے بینک سے متعلق امور دیگر دفتر کے متفرق امور نہایت مستعدی سے سر انجام دیتا رہا ہوں۔ من سائل کا سابقہ شفاف ریکارڈ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

کچھ عرصہ قبل جب جناب عبدالغفور آفریدی صاحب، DIG ڈیرہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے روانہ ہوئے تو من سائل کو اس دوران ریکروٹی کورس کے لئے سیلیکٹ کر دیا گیا حالانکہ من سائل کے علاوہ کئی ایک کنسٹیبل موجود ہیں جن پر کنسٹیبلری نمبری الاٹ ہے جیسا کہ پلمبر، ڈرائیور، Mason کنسٹیبل وغیرہ وغیرہ۔ من سائل چونکہ جسمانی طور پر من سائل مکمل طور پر فٹ نہ ہے اور من سائل کی عمر 42/43 سال ہے۔ من سائل کو کمر (ریڑھ کی ہڈی) کی تکلیف لاحق ہے اور ڈاکٹر صاحبان نے من سائل کو سخت جسمانی مشقت کے کام کرنے سے منع کیا ہے۔ من سائل نے اپنی میڈیکل رپورٹس بھی پیش کیں مگر سائل پر بجائے رحم کرنے کے، تنخواہ بند کر کے مزید ذہنی کوفت سے دوچار کیا گیا۔ DIG صاحب کی واپسی کے بعد اگرچہ وہ آرڈر Cancel ضرور ہوئے مگر اگلے چند ہی روز میں وہ آرڈر دوبارہ Cancel کر دیے گئے۔ اور اب تک من سائل بمع فیملی مسلسل پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں۔

جناب عالی! من سائل ایک غریب، عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور من سائل نے اپنی تنخواہ میں بوجہ والدہ کے بیمار ی سے Salary Loan لیا تھا جو کہ اب بھی واجب الاداء ہے۔ من سائل کی حالت زار یہ رحم فرمایا جائے تاکہ من سائل اس مہنگائی اور سخت پریشانی کے عالم میں اپنی اور اپنی فیملی کفالت بہ طریق احسن کر سکے۔

## العارض

صاحبزادہ محمد فہیم، فوٹو سٹیٹ افسر آپریٹر 1078/Constable، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

0344-938-1575

Attestd

Ann. K 26  
2

K

From The Dy: Inspector General of Police,  
DIKhan Region, DIKhan

To The Principal,  
Police Training School,  
Sawabi.

No. \_\_\_\_\_/ES

Dated D.I.Khan the

30 10/2015

Subject NOMINAL ROLLS/ SELECTION

Memo:

Please refer to DPO DIKhan office memo: No. 1701/EC dated  
08.07.2015.

As per letter referred above, 51 Recruit Constables were selected  
by DPO DIKhan for recruit course commencing at PTS Sawabi w.e. from 08/07.2015.  
The name of recruit Constable Muhammad Faheem, 1078 mentioned at S: No. 18 in the  
Nominal Roll may please be withdrawn from the date of selection in the best interest  
of official work.

(ABDUL GHAFUOR AFRIDI)  
PSP, PPM

Deputy Inspector General of Police,  
Dera Ismail Khan Region

No. 2859 /ES

Copy of above is sent to the District Police Officer, DIKhan for  
similar action with the directions to release his monthly salary, if stopped.

(ABDUL GHAFUOR AFRIDI)  
PSP, PPM

Deputy Inspector General of Police,  
Dera Ismail Khan Region

Attested

\*

AM. 2 27  
2 2

4


From: The Dy: Inspector General of Police,  
DIKhan Region, DIKhan

To: The Principal,  
Police Training School,  
Sawabi.


No. 2943 /ES, Dated DIKhan the 05/08/2015

Subject: **NOMINAL ROLLS / SELECTION**

Memo: It is intimated this office letter No. 2858, dated 30.07.2015 regarding withdrawal  
the name of recruit Constable Mohammad Faheem, 1078 may please be treated as cancelled.

  
(ABDUL GHAFOOR AFRIDI)  
PPM, PSP  
Dy: Inspector General of Police,  
DIKhan Region, DIKhan

No. 2944 /ES  
Copy of above is sent to the District Police Officer, DIKhan w/r to this office Endst No.  
2859/ES, dated 30.07.2015, for information & necessary action.

  
(ABDUL GHAFOOR AFRIDI)  
PPM, PSP  
Dy: Inspector General of Police,  
DIKhan Region, DIKhan

K-P-19

Attested  


*Handwritten signature*

*\* Attended*

ATTENDANCE REGISTER

EXECUTIVE STAFF

FROM: 03-12-2011-2015

D. I. G. Police Office

D. I. KHAN

*Answer-M*



Daily Attendance Register of the Executive Staff

Sr. No.	Name	Rank	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	M. Hanif Si	Reader	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2	Salahudin 327 PC	A-R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
3	Khuram CDR	CDR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
4	Noman 1210 LHK	"	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
5	Asad Ali 189 LHK	"	A	A	A	X	A	A	A	A	A	X	X	A	A
6	Ali Kamran	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7	Allah Nawaz 104 PC	N-PA	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A
8	Safar 930 PC	Acant Branch	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A
9	Nagash 44	PLG	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A
10	M. Jam 107 PC	N-R	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A
11	Fahim Photo state OP.T	Fac	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A
12	Amjad Ali 134 PC	A-RD	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A

for the Month of July 2015

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total No. of Days	Remarks
A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
@	@	@	@	X	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@		
A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
P	P	P	P	X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
N	N	N	N	X	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
L	L	L	L	X	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

29

29

Daily Attendance Register of the Executive Staff

for the Month of AUGUST 2015

Sr. No.	Name	Rank	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	M. Hanif SI	Reader	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Salehuddin 327 HC	A-R	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3	Khuram CDR	CDR	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
4	Noman 1210 LFC	"	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
5	Asad AG 189 LFC	"	X	X	A	A	A	A	A	X	X	A	A	A	A
6	Ali Kamran	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7	Ahmed Nadeem 767 LFC	N-PA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Imran 330 LFC	A-B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
9	Nagash 44 LFC	R-Gr	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
10	M. Tan 1057 LFC	N-R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
11	Fateem	FAY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Amjadullah 1057 LFC	O.R-D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total No. of Days	Remarks
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g		
	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
	Medical leave																			

30  
3N

Attested

Fateem  
Photo state. o:PT

Daily Attendance Register of the Executive Staff

for the Month of September 2015

Sr. No.	Name	Rank	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	M Hanif SI	Reader	<del>70</del>	<del>70</del>	<del>70</del>	<del>70</del>	<del>70</del>	<del>70</del>	<del>70</del>	<del>70</del>	<del>70</del>	<del>70</del>	<del>70</del>	<del>70</del>	<del>70</del>
2	Salah-ud-Din <sup>327</sup> / <sub>HC</sub>	A/Reader	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	Khusam Shah <sup>401</sup> / <sub>HC</sub>	1/c CDR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Nazim <sup>116</sup> / <sub>1210</sub>	CDR Br	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
5	Asad Ali Shah <sup>109</sup> / <sub>HC</sub>	CDR Br	As	As	As	As	X	X	As	As	As	As	As	X	X
6	Ali Kamran <sup>11</sup> / <sub>11</sub>	CDR Br	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7	Allah Nawaz <sup>76</sup> / <sub>FC</sub>	PA Br	<del>76</del>	<del>76</del>	<del>76</del>	<del>76</del>	<del>76</del>	<del>76</del>	<del>76</del>	<del>76</del>	<del>76</del>	<del>76</del>	<del>76</del>	<del>76</del>	<del>76</del>
8	Irfan <sup>930</sup> / <sub>FC</sub>	Actg Br	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	X
	Nagash <sup>44</sup> / <sub>FC</sub>	PHOGR	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>
	M Jan <sup>105</sup> / <sub>FC</sub>	A/R/Br	<del>105</del>	<del>105</del>	<del>105</del>	<del>105</del>	<del>105</del>	<del>105</del>	<del>105</del>	<del>105</del>	<del>105</del>	<del>105</del>	<del>105</del>	<del>105</del>	<del>105</del>
	Fahim <sup>1078</sup> / <sub>FC</sub>	Fax OP	<del>1078</del>	<del>1078</del>	<del>1078</del>	<del>1078</del>	<del>1078</del>	<del>1078</del>	<del>1078</del>	<del>1078</del>	<del>1078</del>	<del>1078</del>	<del>1078</del>	<del>1078</del>	<del>1078</del>
	Amjadullah <sup>1391</sup> / <sub>FC</sub>	Ord	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total No. of Days	Remarks
<del>70</del>	<del>70</del>	<del>70</del>	<del>70</del>	<del>70</del>															
20	20																		
2	2	2	2																
@	@	@	@																
As	As	As	As																
P	P	P	P																
<del>76</del>	<del>76</del>	<del>76</del>	<del>76</del>																
L	L	L	L																
<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	<del>NA</del>	
<del>105</del>	<del>105</del>	<del>105</del>	<del>105</del>																
<del>1078</del>	<del>1078</del>	<del>1078</del>	<del>1078</del>																
<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	<del>1391</del>	

31

Attended

Am: M-1

تاریخ: ۱

کارسرفار خصوصاً چونکہ دفتر ہدائی خود اس وقت نہیں

کالونر خاریج حکم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کارسرفار

میں رفاقت پیدا ہوئی۔ اسلئے میرا بی بی فرخا کر ایک

عمر ٹونر بازار سے خرید کر ان کی اجازت عنایت

فرمائیں تاکہ کارسرفار میں رفاقت نہ آئے۔

کئی عین لوازش سرفی

العارض - حدیث 15-8-27

علاحدہ محمد رفیع خلیس دفتر اساتذہ عین امیر دہلی 1078

[Handwritten signature]

Acc't  
To arrange Pleas  
JW  
OS  
27/8/5

Sir,

Submitted for order P.S.

w/D/G.

SL

[Handwritten signature]

Attested  
[Handwritten signature]

DISCIPLINARY ACTION

5

I, DISTRICT POLICE OFFICER, Dera Ismail Khan as a competent authority of the opinion that you Constable Mohammad Fahim No.1078 have rendered yourself liable to be proceeded against and committed the following acts/omissions within the meaning of the Khyber Pakhtunkhwa Police Rules 1975 amended-2014.

STATEMENT OF ALLEGATION

That you were selected for Basic Recruit Course at Recruit Training School Swabi and was relieved from Police Lines on 08.07.2015 to join the Said Training. On 13.08.2015 SI Mohammad Fayyaz Reader to Principal Police Training School Swabi, reported telephonically that you have not reported your arrival at Recruit Training School Swabi uptill now. This act on your part amounts to gross misconduct which is punishable under the rules.

Hence the statement of allegation.

2. For the purpose of scrutinizing the conduct of the said accused with reference to the above allegation DSP Imtiaz Dera Ismail Khan is appointed as enquiry officer to conduct proper departmental enquiry under Police Rules 1975 amended-2014.

3. The enquiry officer shall in accordance with the provision of the ordinance, provide reasonable opportunity of the hearing to the accused, record its findings and make, within ten days of the receipt of this order recommendations as to punishment or other appropriate action against the accused.

4. The accused and a well conversant representative of the department shall join the proceedings on the date time and place fixed by the enquiry officers.

District Police Officer,  
Dera Ismail Khan

No. 2195-96/EC Dated DIKhan the 25-8 /2015  
Copy to: -

1. \_\_\_\_\_ Dera Ismail Khan. The enquiry officer for initiating proceeding against the defaulter under the provision of Khyber Pakhtunkhwa Police Rules 1975 amended-2014, with the direction to complete the enquiry within 10-days. Enquiry papers containing \_\_\_\_\_ pages are enclosed.
2. Constable Mohammad Fahim No.1078 with the direction to appear before the E.O on the date, time and place fixed by the E.O, for the purpose of enquiry proceeding.

*Attested*  
*[Signature]*

District Police Officer,  
Dera Ismail Khan

بیان حلفی

جناب عالی!

بحوالہ چارج شیڈ مجاریہ دفتر جناب DPO صاحب، ڈیرہ نمبر 96-2195، مورخہ 25.08.2015

حسب ذیل معروض ہوں:

۱- کہ من سائل مورخہ 24.07.2001 کو بطور کنسٹیبل برائے فوٹو اسٹیٹ فیکس آپریننگ بھرتی ہوا۔ سائل اپنی ڈیوٹی بخوبی سے سرانجام دیتا چلا آ رہا ہے اور اس دوران افسران بالا کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ بلکہ احسن کارکردگی کی بنیاد پر من سائل کو متعدد بار تعریفی اسناد و نقد انعام عطا کیے گئے۔

۲- یہ کہ من سائل کو 2003 میں ریکروٹ ٹریننگ کے لئے نامزد کر کے RTW کو ہاٹ بھجوا یا گیا لیکن جلد ہی افسران بالائے ضلع واپس بلا کر سابقہ جائے تعیناتی پر مورخہ 25.06.2003 کو بحال کر دیا کیونکہ من سائل کی عدم موجودگی میں سرکاری کام بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ (نقل حکم افسران بالا لفظ ہے)۔

۳- یہ کہ من سائل کو مورخہ 22.07.2004 کو دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ (نقل حکم لفظ ہے) جہاں کافی عرصہ اپنی خدمات سرانجام دینے کے بعد من سائل کو مورخہ 13.04.2015 کو منی آپریشنل برانچ، واقع دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ میں تعینات فرما کر اضافی ڈیوٹی پر مامور فرمایا۔ جس پر من سائل نے اپنی خدمات سرانجام دیں جس کے اعتراف میں من سائل کو جناب DIG صاحب، ڈیرہ نے تعریفی اسناد و نقد انعام سے نوازا۔ (نقول لفظ ہیں)

۴- یہ کہ من سائل کو جناب DPO صاحب، ڈیرہ کے حکم سے مورخہ 08.07.2015، پولیس ٹریننگ سکول، صوابی میں ریکروٹ کورس کے لئے منتخب کر کے حاضری کا حکم ملا۔ چونکہ من سائل ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف میں مبتلا تھا تو من سائل نے فوری طور پر اپنی میڈیکل سرٹیفکیٹ، پولیس ٹریننگ سکول، صوابی بذریعہ فیکس ارسال کر دیں، جس کے مطابق من سائل کو ڈاکٹر صاحب نے سخت جسمانی مشقت والا کام اور روزنی چیزیں اٹھانے سے اجتناب تجویز فرمایا تھا۔ (نقل میڈیکل لفظ ہے)۔

۵- یہ کہ من سائل بعد ازاں تعمیل حکم کے لئے خود پولیس ٹریننگ سکول، صوابی روانہ ہوا جہاں پر SI ریاض خان نے من سائل کو زبانی طور پر بتلایا کہ وہ میری حاضری کو اس وجہ سے تسلیم نہیں کر سکتے کہ نہ تو میری Fitness Certificate دفتر جناب DPO صاحب، ڈیرہ سے ارسال کی گئی ہے اور نہ ہی جملہ طبی ٹیسٹ ہائے لفظ ہیں۔ نقل مدروز نامچہ نمبر 18 مورخہ 14.07.2015 میری وہاں موجودگی کا ثبوت ہے۔

۶- یہ کہ مورخہ 30.07.2015 کو دفتر جناب DIG صاحب سے چشمی انگریزی جاری ہوئی جس کی رو سے سابقہ آرڈر برائے ریکروٹ کورس منسوخ تصور ہوا۔ جس کے بعد من سائل نے دفتر جناب DIG، ڈیرہ حاضری کر کے ڈیوٹی پر مامور ہوا۔ (نقل حکم لفظ ہے)۔ کچھ روز بعد جناب DIG صاحب، ڈیرہ کے حکم ہی سے سابقہ حکم دوبارہ

Attested

✱

منسوخ ہوا۔ جس کے بعد من سائل کو ٹریننگ کے لئے پولیس ٹریننگ سکول، صوابی جانا تھا۔ من سائل کو چونکہ جسمانی مشقت والے کام سے پرہیز تجویز کی گئی تھی اس لئے من سائل نے میڈیکل سرٹیفکیٹ ارسال کیں۔ (نقول لف ہیں)۔

۷۔ یہ کہ من سائل کو افسران بالا کی طرف سے زبانی حکم ہوا کہ دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ میں اپنی سابقہ جائے تعیناتی پر حاضر ہو جاؤں۔ من سائل اب تک وہیں پر حاضر موجود ہو کر اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ من سائل نے گزشتہ روز ایک درخواست برائے ”حصول اجازت برائے خرید کرنے ٹونز“ بحضور جناب DIG صاحب، ڈیرہ گزاری جنہوں نے وہ درخواست Allowed فرمائی (نقل درخواست لف ہے)۔ اور یہ کہ من سائل دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ کے Attendance Register کی نقول بھی پیش کرتا ہے جس کے مطابق من سال وہاں حاضر رہ کر اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہے۔ اور بغیر حکم افسران بالا، من سائل کبھی بھی دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ میں ڈیوٹی کی جرأت نہیں کر سکتا۔

۸۔ یہ کہ من سائل کو مورخہ 01.09.2015 دفتر جناب DPO صاحب، ڈیرہ سے رمضان نامی پولیس اہلکار نے بذریعہ فون مطلع کیا کہ آ کر اپنی چارج شیٹ وصول کر کے آج ہی آج جواب چارج شیٹ دے بصورت دیگر یکطرفہ کارروائی کی جائے گی۔

یہ کہ مذکورہ بالا معروضات کے پیش نظر من سائل دست بستہ ہو کر التجا کرتا ہے کہ من سائل ایک غریب آدمی ہے، من سائل کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، من سائل ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف کا شکار ہے، برائے مہربانی میری میڈیکل کو Accept فرمائیں اور من سائل پر رحم کرتے ہوئے انکو آری فائل کرنے کا حکم صادر فرمائیں۔ من سائل کا سابقہ ریکارڈ بے داغ اور شفاف ہے۔ ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی افسران بالا کی تابعداری اور حکم برداری کو ہر ممکن طور پر یقینی بنائے گا۔


مورخہ 03.09.2015

## العارض

صاحبزادہ محمد فہیم 1078/FC، حال فوٹو سٹیٹ / فیکس مشین آپریٹر دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان

Attested



  
3-9-15

Ann: N-2 35  
2

**CHARGE SHEET**

Where as, I am satisfied that a formal enquiry as contemplated by Khyber Pakhtunkhwa Police Rules 1975 amended-2014 is necessary and expedient.

AND WHEREAS, I am of the view that the allegation if established would call for a major penalty as defined in rules-4(i)(B) of the aforesaid rules.

AND THEREFORE, as required by Police Rules 6(1) of the aforesaid rules, I **DISTRICT POLICE OFFICER** Dera Ismail Khan hereby charge you **Constable Mohammad Fahim No.1078** with the misconduct on the basis of the statement attached to this Charge Sheet.

AND, I, hereby direct you further under rules 6(i)(B) of the said rules to put in written defence with in 7-days of receipt of this Charge Sheet as to why the proposed action should not be taken against you and also state at the same time whether you desire to be heard in person or otherwise.

AND, in case, your reply is not received within the prescribed period, without sufficient cause, it would be presumed that you have no defence to offer and that Ex-parte proceeding will be initiated against you.

**District Police Officer,**  
Dera Ismail Khan

*Alleged*  
\*



Ann. N-3 36

جناب عالی!

بحوالہ چارج شیٹ جاریہ دفتر جناب DPO صاحب، ڈیرہ نمبر 96-2195، مورخہ 25.08.2015، حسب ذیل معروض ہوں:

۱- کہ من سائل مورخہ 24.07.2001 کو بطور کنشیل برائے فوٹو اسٹیٹ و فیکس آپرینٹنگ بھرتی ہوا۔ سائل اپنی ڈیوٹی بخوبی سے سرانجام دیتا چلا آ رہا ہے اور اس دوران افسران بالا کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ بلکہ احسن کارکردگی کی بنیاد پر من سائل کو متعدد بار تعریفی اسناد و نقد انعام عطا کیے گئے۔

۲- یہ کہ من سائل کو 2003 میں ریکروٹ ٹریننگ کے لئے نامزد کر کے RTW کو ہاٹ بھجوا یا گیا لیکن جلد ہی افسران بالائے ضلع واپس بلا کر سابقہ جائے تعیناتی پر مورخہ 25.06.2003 کو بحال کر دیا کیونکہ من سائل کی عدم موجودگی میں سرکاری کام بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ (نقل حکم افسران بالا لفظ ہے)۔

۳- یہ کہ من سائل کو مورخہ 22.07.2004 کو دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ (نقل حکم لفظ ہے) جہاں کافی عرصہ اپنی خدمات سرانجام دینے کے بعد من سائل کو مورخہ 13.04.2015 کو منی آپریشنل برانچ، واقع دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ میں تعینات فرما کر اضافی ڈیوٹی پر مامور فرمایا۔ جس پر من سائل نے اپنی خدمات سرانجام دیں جس کے اعتراف میں من سائل کو جناب DIG صاحب، ڈیرہ نے تعریفی اسناد و نقد انعام سے نوازا۔ (نقل لفظ ہے)

۴- یہ کہ من سائل کو جناب DPO صاحب، ڈیرہ کے حکم سے مورخہ 08.07.2015، پولیس ٹریننگ سکول، صوابلی میں ریکروٹ کورس کے لئے منتخب کر کے حاضری کا حکم ملا۔ چونکہ من سائل ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف میں مبتلا تھا تو من سائل نے فوری طور پر اپنی میڈیکل سرٹیفکیٹ، پولیس ٹریننگ سکول، صوابلی بذریعہ فیکس ارسال کر دیں، جس کے مطابق من سائل کو ڈاکٹر صاحب نے سخت جسمانی مشقت والا کام اور روزنی چیزیں اٹھانے سے اجتناب تجویز فرمایا تھا۔ (نقل میڈیکل لفظ ہے)۔

۵- یہ کہ من سائل بعد ازاں تعین حکم کے لئے خود پولیس ٹریننگ سکول، صوابلی روانہ ہوا جہاں پر SI ریاض خان نے من سائل کو زبانی طور پر بتلایا کہ وہ میری حاضری کو اس وجہ سے تسلیم نہیں کر سکتے کہ نہ تو میری Fitness Certificate دفتر جناب DPO صاحب، ڈیرہ سے ارسال کی گئی ہے اور نہ ہی جملہ طبی ٹیسٹ ہائے لفظ ہیں۔ نقل دروز ناچ نمبر 18 مورخہ 14.07.2015 میری وہاں موجودگی کا ثبوت ہے۔

۶- یہ کہ مورخہ 30.07.2015 کو دفتر جناب DIG صاحب سے چٹھی انگریزی جاری ہوئی جس کی رو سے سابقہ آرڈر برائے ریکروٹ کورس منسوخ تصور ہوا۔ جس کے بعد من سائل نے دفتر جناب DIG، ڈیرہ حاضری کر کے ڈیوٹی پر مامور ہوا۔ (نقل حکم لفظ ہے)۔ کچھ روز بعد جناب DIG صاحب، ڈیرہ کے حکم ہی سے سابقہ حکم دوبارہ

Attested



منسوخ ہوا۔ جس کے بعد من سائل کو ٹریننگ کے لئے پولیس ٹریننگ سکول، صوابی جانا تھا۔ من سائل کو چونکہ جسمانی مشقت والے کام سے پرہیز تجویز کی گئی تھی اس لئے من سائل نے میڈیکل سرٹیفکیٹ ارسال کیں۔ (نقول لف ہیں)۔

۷۔ یہ کہ من سائل کو افسران بالا کی طرف سے زبانی حکم ہوا کہ دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ میں اپنی سابقہ جائے تعیناتی پر حاضر ہو جاؤں۔ من سائل اب تک وہیں پر حاضر موجود ہو کر اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ من سائل نے گزشتہ روز ایک درخواست برائے ”حصول اجازت برائے خرید کرنے ٹونز“ بحضور جناب DIG صاحب، ڈیرہ گزاری جنہوں نے وہ درخواست Allowed فرمائی (نقل درخواست لف ہے)۔ اور یہ کہ من سائل دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ کے Attendance Register کی نقول بھی پیش کرتا ہے جس کے مطابق من سال وہاں حاضر رہ کر اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہے۔ اور بغیر حکم افسران بالا، من سائل کبھی بھی دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ میں ڈیوٹی کی جرات نہیں کر سکتا۔

۸۔ یہ کہ من سائل کو مورخہ 01.09.2015 دفتر جناب DPO صاحب، ڈیرہ سے رمضان نامی پولیس اہلکار نے بذریعہ فون مطلع کیا کہ آکر اپنی چارج شیٹ وصول کر کے آج ہی آج جواب چارج شیٹ دے بصورت دیگر یکطرفہ کارروائی کی جائے گی۔

یہ کہ مذکورہ بالا معروضات کے پیش نظر من سائل دست بستہ ہو کر التجا کرتا ہے کہ من سائل ایک غریب آدمی ہے، من سائل کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، من سائل ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف کا شکار ہے، برائے مہربانی میری میڈیکل کو Accept فرمائیں اور من سائل پر رحم کرتے ہوئے انکو آسری فائل کرنے کا حکم صادر فرمائیں۔ من سائل کا سابقہ ریکارڈ بے داغ اور شفاف ہے۔ ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی افسران بالا کی تابعداری اور حکم برداری کو ہر ممکن طور پر یقینی بنائے گا۔

مورخہ 03.09.2015

## العارض

صاحبزادہ محمد فہیم 1078/FC، حال فوٹو سٹیٹ / فیکس مشین آپریٹر دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان

Attested  
\*

3-9-15

This order is aimed to dispose off the departmental proceeding conducted against Constable Mohammad Faheem No.1078 of this District Police who was served with charge sheet and statement of allegation on the charges that he was selected for Basic Recruit Course at Recruit Training School Swabi and was relieved from Police Lines on 08.07.2015 to join the said training. On 13.08.2015 SI Mohammad Fayyaz Reader to Principal Police Training School Swabi reported telephonically that he has not reported his arrival at Recruit Training School Swabi uptill now.

The defaulter Constable was served with charge sheet/statement of allegations. An enquiry was conducted into the matter by Mr. Imtiaz Ali DSP/Legal DIKhan. The Enquiry Officer submitted his finding report in which he stated that the defaulter constable is found guilty of the charges levelled against him.

In the light of above I, DISTRICT POLICE OFFICER, DIKhan in exercise of powers conferred upon me under the Police Rules 1975 amended-2014, hereby award Constable Mohammad Faheem No.1078 Major Punishment of Dismissal from Service with immediate effect. The period of absence i.e. 08.07.2015 to 15.09.2015 i.e. 02-months & 07-days treated as leave without pay.

ORDER ANNOUNCED

*[Signature]*  
District Police Officer,  
Dera Ismail Khan

*OB 1742*  
*445*  
*18/9/15*  
*DI 16-9-15*  
*Ex-Cert Mohammad Faheem No. 1078*  
*18/9/2015*  
*Res. Appeal*  
*1819*  
*Attested*

*Attested*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
D.S.P./L  
D.I.K

*Attested*  
*[Signature]*

منسوخ ہوا۔ جس کے بعد من سائل کو ٹریننگ کے لئے پولیس ٹریننگ سکول، صوابی جانا تھا۔ من سائل کو چونکہ جسمانی مشقت والے کام سے پرہیز تجویز کی گئی تھی اس لئے من سائل نے میڈیکل سرٹیفکیٹ ارسال کیں۔ (نقول لف ہیں)۔

۷۔ یہ کہ من سائل کو افسران بالا کی طرف سے زبانی حکم ہوا کہ دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ میں اپنی سابقہ جائے تعیناتی پر حاضر ہو جاؤں۔ من سائل اب تک وہیں پر حاضر و موجود ہو کر اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ من سائل نے گزشتہ روز ایک درخواست برائے ”حصول اجازت برائے خرید کرنے ٹونز“ بحضور جناب DIG صاحب، ڈیرہ گزارا جنہوں نے وہ درخواست Allowed فرمائی (نقول درخواست لف ہے)۔ اور یہ کہ من سائل دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ کے Attendance Register کی نقول بھی پیش کرتا ہے جس کے مطابق من سال وہاں حاضر رہ کر اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہے۔ اور بغیر حکم افسران بالا، من سائل کبھی بھی دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ میں ڈیوٹی کی جرات نہیں کر سکتا۔

۸۔ یہ کہ من سائل کو مورخہ 01.09.2015 دفتر جناب DPO صاحب، ڈیرہ سے رمضان نامی پولیس اہلکار نے بذریعہ فون مطلع کیا کہ آ کر اپنی چارج شیٹ وصول کر کے آج ہی آج جواب چارج شیٹ دے بصورت دیگر یکطرفہ کارروائی کی جائے گی۔

یہ کہ مذکورہ بالا معروضات کے پیش نظر من سائل دست بستہ ہو کر التجا کرتا ہے کہ من سائل ایک غریب آدمی ہے، من سائل کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، من سائل ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف کا شکار ہے، برائے مہربانی میری میڈیکل کو Accept فرمائیں اور من سائل پر رحم کرتے ہوئے انکو آئری فائل کرنے کا حکم صادر فرمادیں۔ من سائل کا سابقہ ریکارڈ بے داغ اور شفاف ہے۔ ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی افسران بالا کی تابعداری اور حکم برداری کو ہر ممکن طور پر یقینی بنائے گا۔

مورخہ 03.09.2015

## العارض

صاحبزادہ محمد فہیم 1078/FC، حال فوٹو شیٹ / فیکس مشین آپریٹر دفتر جناب DIG صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان

Attested  
\*

3-9-15

ORDER

AM:O 38

This order is aimed to dispose off, the departmental proceeding conducted against Constable Mohammad Faheem No.1078 of this District Police who was served with charge sheet and statement of allegation on the charges that he was selected for Basic Recruit Course at Recruit Training School Swabi and was relieved from Police Lines on 08.07.2015 to join the said training. On 13.08.2015 SI Mohammad Fayyaz Reader to Principal Police Training School Swabi reported telephonically that he has not reported his arrival at Recruit Training School Swabi uptill now.

The defaulter Constable was served with charge sheet/statement of allegations. An enquiry was conducted into the matter by Mr. Imtiaz Ali DSP/Legal DIKhan. The Enquiry Officer submitted his finding report in which he stated that the defaulter constable is found guilty of the charges levelled against him.

In the light of above I, DISTRICT POLICE OFFICER, DIKhan in exercise of powers conferred upon me under the Police Rules 1975 amended-2014, hereby award Constable Mohammad Faheem No.1078 Major Punishment of Dismissal from Service with immediate effect. The period of absence i.e. 08.07.2015 to 15.09.2015 i.e. 02-months & 07-days treated as leave without pay.

ORDER ANNOUNCED

District Police Officer,  
Dera Ismail Khan

OB 1742

445  
18/9/15  
DI 16-9-15

Ex-Capt. Mohammad  
Fayyaz No. 1078  
18/9/2015  
For Attestation

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
Attested

Attested

1819

D.S.P.

## بخدمت جناب ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس، ڈیرہ اسماعیل خان

عنوان: اپیل بنا راضگی حکم مورخہ 16.09.2015  
آرڈر نمبر 1742 جس کی رو سے سائل کو  
ملازمت سے Dismiss کیا گیا۔

جناب عالی

سائل حسب ذیل معروض ہے:

- 1- یہ کہ من سائل 24.07.2001 کو بطور فوٹو سٹیٹ آپریٹر بھرتی ہوا اور محکمانہ طور پر کنسٹیبلری نمبر 1078 اور گریڈ دیا گیا۔ سائل اسکی ٹریننگ کا اصولاً اور قانوناً جواز نہ تھا۔
- 2- یہ کہ الزامات میں کوئی حقیقت نہ ہے۔ سائل کو بوجہ بیماری ٹریننگ سے واپس آنا پڑا۔ میڈیکل کاغذات ٹریننگ سنٹر بھجوائے گئے (نقول ہمراہ لف ہیں)
- 3- یہ کہ افسران بالا کی خدمت میں جائز معروضات پیش کر چکا ہوں۔ سائل کو بروقت ٹریننگ پر نہ بھجوانے میں سائل کا کوئی قصور نہ ہے۔ اور اب تقریباً 15 سال بعد جب بھجوانے کا حکم ہوا تو اس وقت من سائل کمرامہروں کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ جس کی وجہ سے جائز گزارشات پیش کیں۔
- 4- یہ کہ سائل بدستور اپنی ڈیوٹی پر دفتر میں موجود رہا اور کوئی غیر حاضری نہیں کی۔
- 5- یہ کہ سزا برخواستگی سخت اقدام ہے اور قابل رحم ہے۔
- 6- یہ کہ حالیہ سزا سے سائل کے بچوں کو رزق سے محروم کر دیا گیا ہے۔
- 7- یہ کہ آپ جناب کو سائل کو بحال کرنے سے وسیع اختیارات ہیں۔
- 8- یہ کہ انکوائری رپورٹ باوجود درخواست کے من سائل کو نہ مل سکی۔ معلوم نہیں کہ کس بنیاد پر انکوائری افسر نے سائل کو غیر حاضر ظاہر کیا ہے۔
- 9- یہ کہ من سائل بروز Dismissal بھی اپنی جائے تعیناتی یعنی دفتر DIG میں موجود و حاضر تھا۔
- 10- یہ کہ سائل کی حاضری کی بابت افسران بالا نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور جملہ رپورٹ انکوائری افسر

Attested  
\*

بالکل غلط، خلاف واقعات اور خلاف قانون ہے۔ انکو اتری افسر نے سائل کو شنوائی اور صفائی کا موقع تک نہیں دیا۔ جملہ کاروائی یکطرفہ ہے۔ سائل کو شنوائی کا موقع فراہم کیا جائے۔  
لہذا استدعا ہے کہ واقعات بالا کے پیش نظر سائل کی حق رسی فرمائی جائے۔

مورخہ 22.09.2015

## العارض

صاحبزادہ محمد فہیم سابقہ کنسٹیبل / فیکس و فوٹو سٹیٹ آپریٹر نمبر 1078، ڈیرہ اسماعیل خان

*[Handwritten signature]*

*Attestad*

*[Handwritten mark]*

1338/EC  
19-10-15

Am: P 39  
=

ORDER:

This order is meant to dispose off the appeal preferred by Ex Constable Sahibzada Muhammad Faheem, 1078 of DIKhan District against the order of dismissal from service awarded to him by DPO DIKhan vide OB No.1742 dated 16.09.2015. He was proceeded against on the allegations that he was selected for Basic Recruit Course at Recruit Training School Sawabi and was relieved from Police Lines on 08.07.2015 to join the said training. On 13.08.2015 Sub Inspector Muhamamd Fayyaz Reader to Principal Police Training School Sawabi reported telephonically that he has not reported his arrival at Recruit Training School Sawabi up till now. In this connection Mr. Imtiaz Ali DSP/ Legal DIKhan was appointed as enquiry officer, on the recommendations of enquiry officer he was proceeded against the allegations.

The appellent Ex Constable preferred the instant appeal against the order of DPO DIKhan. I have gone through the service record of the appellent and also heard him in person on 14.10.2015.

Therefore in exercise of power conferred upon me I, Abdul Ghafoor Afridi Dy: Inspector General of Police DIKhan, being a competent authority finds no substance in appeal and hold that DPO has correctly passed the order, therefore, this appeal is dismissed and filed.



(ABDUL GHAFUOR AFRIDI)  
PSP, PPM  
Deputy Inspector General of Police,  
Dera Ismail Khan Region

No. 4023 /ES dated: 16 /10/2015

Copy to the District Police Officer, DIKhan for information & necessary action with reference to his office memo: No. 2668/EC dated 06.10.2015. Service Record of said Ex-Constable is also returned herewith.

Encl. S. Roll - 1  
F. Missal - 1



(ABDUL GHAFUOR AFRIDI)  
PSP, PPM  
Deputy Inspector General of Police,  
Dera Ismail Khan Region

B 1889  
DI 20-10-15  
Attested

D.S. Legal  
D. I. Khan

O: B/E.c  
For reaction  
DPO DIKhan  
19/10

4448  
20.10.2015  
Ex FC Sahibzad Muhammad Faheem-1078  
21.10.2015  
21.10.2015  
Attested

Attested



بخدمت جناب انسپکٹر جنرل آف پولیس، صوبہ خیبر پختونخواہ، پشاور

اپیل بنا راضگی حکم مورخہ 16.09.2015

عنوان:

آرڈر نمبر 1742 جس کی رو سے سائل کو

ملازمت سے Dismiss کیا گیا۔

S. Saeed

Pl. Present

جناب عالی

سائل حسب ذیل معروض ہے:

- 1- یہ کہ من سائل 24.07.2001 کو بطور فوٹو سٹیٹ آپریٹر بھرتی ہوا اور حکمانہ طور پر کنسٹیبلری نمبر 1078 اور گریڈ دیا گیا۔ سائل اسکی ٹریننگ کا اصولاً اور قانوناً جواز نہ تھا۔
- 2- یہ کہ الزامات میں کوئی حقیقت نہ ہے۔ سائل کو بوجہ بیماری ٹریننگ سے واپس آنا پڑا۔ میڈیکل کاغذات ٹریننگ سنٹر بھجوائے گئے (نقول ہمراہ لف ہیں)
- 3- یہ کہ افسران بالا کی خدمت میں جائز معروضات پیش کر چکا ہوں۔ سائل کو بروقت ٹریننگ پر نہ بھجوانے میں سائل کا کوئی قصور نہ ہے۔ اور اب تقریباً 15 سال بعد جب بھجوانے کا حکم ہوا تو اس وقت من سائل کرا مہروں کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ جس کی وجہ سے جائز گزارشات پیش کیں۔
- 4- یہ کہ سائل بدستور اپنی ڈیوٹی پر دفتر میں موجود رہا اور کوئی غیر حاضری نہیں کی۔
- 5- یہ کہ سزا بر خاستگی سخت اقدام ہے اور قابل رحم ہے۔
- 6- یہ کہ حالیہ سزا سے سائل کے بچوں کو رزق سے محروم کر دیا گیا ہے۔
- 7- یہ کہ آپ جناب کو سائل کو بحال کرنے سے وسیع اختیارات ہیں۔
- 8- یہ کہ انکوائری رپورٹ باوجود درخواست کے من سائل کو نہ مل سکی۔ معلوم نہیں کہ کس بنیاد پر انکوائری افسر نے سائل کو غیر حاضر ظاہر کیا ہے۔
- 9- یہ کہ من سائل بروز Dismissal بھی اپنی جائے تعیناتی یعنی دفتر DIG میں موجود و حاضر تھا۔
- 10- یہ کہ سائل کی حاضری کی بابت افسران بالائے کوئی نوٹس نہیں لیا اور جملہ رپورٹ انکوائری افسر

S/3375/11

DT: 29-10-11

Registration

Pls process

Jm

29/11

M. Saeed

بالکل غلط، خلاف واقعات اور خلاف قانون ہے۔ انکو آری افسر نے سائل کو شنوائی اور صحتی کا موقع تک نہیں دیا۔ جملہ کاروائی یکطرفہ ہے۔

11- یہ کہ من سائل نے اپیل بر خلاف حکم مندرجہ عنوان بالا بحضور جناب DIG صاحب، ڈیرہ مورخہ 22.09.2015 کو گزاری جس کو جناب DIG صاحب، ڈیرہ نے DPO صاحب، ڈیرہ کے حکم کو درست گردانتے ہوئے من سائل کی اپیل مورخہ 16.10.2015 کو خارج کر دی۔ نقل ہمراہ لف ہے۔

اب آنجناب سے دست بستہ ہو کر التماس کرتا ہے کہ من سائل کے مذکورہ بالا معروضات، مجبوریوں اور حالت زار پر رحم فرماتے ہوئے من سائل کی اپیل منظور فرما کر من سائل کو اپنی ملازمت پر بحال فرما کر من سائل کے بچوں پر احسان عظیم فرماویں۔ مزید یہ کہ سائل کو شنوائی / Personal hearing کا موقع فراہم کیا جائے۔

مورخہ 28.10.2015

## العارض

صاحبزادہ محمد فہیم سابقہ کنسٹیبل / فیکس و فوٹو سٹیٹ آپریٹر نمبر 1078، ڈیرہ اسماعیل خان

Attested  
\*

Amir: Q

42

From

The Dy: Inspector General of Police,  
Dera Ismail Khan Region.

To

The Provincial Police Officer,  
NWFP Peshawar.

No. 2906 /ES Dated D.I.Khan the

07/11/2007

Subject  
Memorandum.

**APPLICATION**

An application preferred by Constable Sahibzada Muhammad Fahim No.1078 working as Operator Photostat in this office requesting for absorption as Junior Clerk in Police Department is submitted herewith for favour of consideration please.

Encl(i)

(MOHAMMAD HABIB-UR-RAHMAN) PPM

Dy: Inspector General of Police,

Dera Ismail Khan

Attested  
\*

Q 43  
2



From The Dy: Inspector General of Police,  
Investigation, DIKhan.

To The Provincial Police Officer,  
NWFP, Peshawar.

No. 1629 /ES dated DIKhan the 6/06 /2008.

Subject: **APPLICATION**

Memo:

An application preferred by Constable Sahibzada Mohammad Fahim No. 1078, working as Photostat Machine Operator in this office requesting therein for his absorption as Junior Clerk in Police Department is submitted herewith for favour of consideration, please.

*MHA*  
(MOHAMMAD HABIB-UR-REHMAN)PPM  
Dy: Inspector General of Police,  
Dera Ismail Khan

*Attested*  
*[Signature]*

Q 44  
=

From The Dy: Inspector General of Police,  
Dera Ismail Khan Range

To The Additional Inspector General of Police,  
Headquarter N.W.F.P, Peshawar

No. 1241 /ES Dated D.I.Khan the 06/04/2010.

Subject: APPOINTMENT AS JUNIOR CLERKS IN POLICE DEPARTMENT

Memorandum:

On the advertisement in Daily Mushraq dated 03.04.2010 for the appointment as Junior Clerk in Police Department the following applications of this office for the said posts are submitted herewith for favour of consideration: -

1. Application of Assistant Grade Clerk Muhammad Zaman for the absorption as Junior Clerk of his son namely Muhammad Imran now serving as Naib Qasid in DPO Office D.I.Khan.
2. Application of Assistant Grade Clerk Abul Hassan Shah for the appointment of his son Zohaib Hassan Shah as Junior Clerk.
3. Application of Daftri Abdur Rehman for the appointment of his son namely Saif-ur-Rehman as Junior Clerk.
4. Application of Constable Operator Sahibzada Muhammad Fahim No.1078 now serving as Photostat operator in Range Office D.I.Khan for absorption as Junior Clerk.
5. Application of Naib Qasid Ghulam Shabir for the appointment of his son namely Amir Shabir as Junior Clerk.

de

Attested  
\*

(FEROZE SHAH)  
Dy: Inspector General of Police,  
Dera Ismail Khan Range

From The Dy: Inspector General of Police,  
Dera Ismail Khan Region

To The Addl: Inspector General of Police,  
Headquarter, N.W.F.P, Peshawar

No. 25/11 / Dated D.I.Khan the 23.08.2008

Subject APPLICATION FOR THE POST OF JUNIOR CLERK

Memorandum

As per advertisement through Daily "Aaj" dated 16.08.2008 the following applications for appointment/ absorption as Junior Clerk in Police Department are submitted herewith for consideration please:

1. Abdur Rehman,  
Office Superintendent  
Range Office D.I.Khan For appointment of his son  
namely Muhammad Zaman  
as Junior Clerk
2. Muhammad Zaman,  
Assistant Range Office D.I.Khan For absorption of his son  
namely Muhammad Imran  
working as Naib Qasid in  
DPO Office D.I.Khan
3. Abdur Rehman,  
Daftri Range Office, D.I.Khan For appointment of his son  
namely Saif-ur-Rehman as  
Junior Clerk
- 4. Sahibzada Muhammad Fahim,  
Constable/ Operator  
Range Office, D.I.Khan For absorption as Junior  
Clerk

*attested*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
(DR. ISHTIAQ AHMAD KHAN) PSP  
Regional Police Officer,  
Dera Ismail Khan

Ph: 0966-9280287  
Fax: 0966-9280290

Q 46  
2

From The Dy: Inspector General of Police,  
DIKhan Region, DIKhan

To The Provincial Police Officer,  
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar

No. 2234 /ES Dated D.I.Khan the 21/8 /2013

Subject PROMOTION/ABSORPTION OF JUNIOR CLERKS


Memorandum

Kindly refer to your office Memo: No.18595-638/E-III dated  
01.08.2013.

The names of the following officials who are willing to absorb as  
Junior Clerk is submitted on the below prescribed proforma, please.

S#	Name of Applicant	District/ Unit	Date of Enlistment	Qualification	Present Age	Willing for absorption or otherwise
1	Aziz-ur-Rehman, Mali	Region Office DIKhan	20.07.1999	Matric	04.04.1974 (39 Y, 3 M, 27 D) on 01.08.2013	Willing
2	Constable Mohammad Fahim No.1078	Fax/ Photostat Operator Region Office DIKhan	27.07.2001	FA	01.01.1975 (38 Y, 7M) on 01.08.2013	Willing

Attested  
\*

  
(IJAZ AHMAD) PSP  
Deputy Inspector General of Police,  
Dera Ismail Khan Region

2

Q 47

**CHIEF MINISTER'S SECRETARIAT  
KHYBER PAKHTUNKHWA**

NO.SOVI/CMS/KPK/6-9/2009/ 9154  
Dated Peshawar the 14-05-2010.

To

The Provincial Police Officer,  
Khyber-Pakhtunkhwa, Peshawar.

Subject:- REQUEST FOR APPOINTMENT/ABSORPTION AS JUNIOR CLERK.

Dear Sir,

I am directed to refer to the subject noted above and to state that Sahibzada Muhammad Fahim Constable (Photostate Operator) No.1078 may please be considered for appointment/absorption as Junior Clerk in Police Department as desired by the Hon'able Chief Minister Khyber-Pakhtunkhwa.

It is, therefore, requested that necessary action in this regard may be taken under intimation to this Secretariat.

Yours faithfully,

/

(DILAWAR SHAH)  
Section Officer -VI

Endst: No. & date Even.

Copy forwarded to:-

1. PS-I to Chief Minister Khyber-Pakhtunkhwa.
2. Nowabzada Qayyum Nawaz Khan Allizai, President ANP D.I.Khan.

/

*Adil Steel*

\* /

*Dilawar Shah*  
Section Officer -I



# وکالت نامہ

48  
2

کورت فیس	قیمت ایک روپیہ
----------	----------------

بعدالت جناب سروسز انجینئر شہیر اختر خواجہ لیٹاور  
 منجانب سائل / اپیلینٹ  
 بنام گورنمنٹ پاکستان وائیو  
 محمد فہیم  
 دعویٰ یا جرم  
 تفصیل دعویٰ یا جرم سروسز اپیل  
 باعث تحریر آئنگے

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطے بیرونی وجوہات ہی برائے پیشی یا تصفیہ مقدمہ بمقام کورت فیس کو حسب ذیل شرائط پر وکیل مقرر کیا ہے، کہ پیش ہر پیشی پر خود یا بذریعہ مختیار خاص رو بہ عدالت حاضر ہوتا رہوں گا اور ہر وقت پکارے جانے مقدمہ وکیل صاحب موصوف کا اطلاع دیکر حاضر عدالت کروں گا، اگر پیشی پر مظہر حاضر نہ ہوا اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور پر میرے برخلاف ہو گیا تو صاحب موصوف اسکے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے، نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز قسطیں بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز قسطیں بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے اور مقدمہ صدر پکھری کے علاوہ اور جگہ سماعت ہونے یا بروز قسطیں یا پکھری کے اوقات کے آگے پیچھے پیش ہونے پر مظہر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا جتان واپس کرنے کے بھی موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مجھ کو کل ساختہ پرواخت صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور قبول ہوگا اور صاحب موصوف کو مرضی دعویٰ یا جواب دعویٰ یا درخواست اجراء کے ذمگی و نظر ثانی اپیل گمانی اور جرم درخواست پر دستخط و تصدیق کرنے کا بھی اختیار ہوگا اور کسی حکم یا ذمگی کرانے اور جرم کاروبار وصول کرنے اور رسید دینے اور داخل کرنے اور جرم کے بیان دینے اور اس پر ثانی یا مرضی نامہ و فیصلہ بر حلف کرنے، اقبال دعویٰ کا بھی اختیار ہوگا اور بصورت مقرر ہونے تاریخ پیشی مقدمہ مذکورہ بیرون از پکھری صدر بیرونی مقدمہ مذکورہ نظر ثانی و اپیل و گمانی و برآمدگی مقدمہ یا منوش و ذمگی یا طرف یا درخواست حکم انتہائی یا ترقی یا گمانی یا قبل از فیصلہ اجراء کے ذمگی بھی صاحب موصوف کو شرط ادا تکلیف ملحدہ جتان بیرونی کا اختیار ہوگا اور تمام ساختہ پرواخت صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور قبول ہوگا۔ اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ مذکورہ ہائے کسی جزو کی کارروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی اپیل یا گمانی یا دیگر معاملہ مقدمہ مذکورہ کسی دوسرے وکیل یا ایجنٹ کو اپنے بجائے یا اپنے ہمراہ مقرر کریں اور ایسے مشیر قانون کو بھی ہر امر میں وہی اور ویسے اختیارات حاصل ہوں گے، جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں، اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جتان اتواء پڑیگا، وہ صاحب موصوف کا حق ہوگا مگر صاحب موصوف کو پوری نہیں تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کروں گا۔ تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ مقدمہ کی بیرونی نہ کریں اور ایسی صورت میں میرا کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ لکھدیا ہے۔ تاکہ سند ہے  
 مورخہ 28 11 2015  
 مضمون وکالت نامہ سن لیا ہے۔ اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے۔  
 العبد العبد العبد

گواہ شاہ گواہ شاہ گواہ شاہ

Non Transferable  
 In the event of joining or carrying on any other profession, business, service or vocation, the holder will not be entitled to use this Card and shall forthwith surrender it to The Pakistan Bar Council.

Name: MR. AHMAD ALI  
 Father's Name: RAHIM GUL  
 Date of Birth: 06-04-1967 CNIC: 12110115151532719  
 Date of Enrolment as Advocate of Supreme Court: 11-08-2012  
 Enrolment No.: 3092 Ref No.: 89/PBC/KPK/J.D.  
 Address: GULSHAN COLONY, D. I. KHAN,  
 Tel: Off. 0092-966-710005 Res. 0092-966-710005 Cell: 0305-3240000

If found please return to  
**PAKISTAN BAR COUNCIL**  
 Supreme Court Building, Constitution Avenue, Islamabad.  
 Tel No. 0092-51-9266805 Fax No. 0092-51-9266922

**PBC BASIC CARD**

**PAKISTAN BAR COUNCIL**

MR. AHMAD ALI  
 Advocate  
 Supreme Court of Pakistan (ASC)  
 Date of Issue: 13-06-2013 Valid Upto: 31-12-2015

(Muhammad Arshad)  
 Secretary  
 Pakistan Bar Council

محمد فہیم - اپیلینٹ  
 قریشی فوٹو اسٹیٹ ضلع پکھری ڈیرہ اسماعیل خان



OFFICE OF THE  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
Central Police Office, Peshawar

No. SI 4677- /16, Dated Peshawar the 22/06/2016.

ORDER

This order is hereby passed to dispose of departmental appeal under Rule 11-A of Khyber Pakhtunkhwa Police Rule-1975 submitted by Ex-Constable Muhammad Faleem No. 1078. The appellant was dismissed from service by DPO/D.I.Khan vide OB No. 1742 dated 16.09.2015, on charges that he was selected for Basic Recruit Course at Recruit Training School Swabi and was relieved from Police Lines on 08.07.2015 to join the said training but he has not reported his arrival at Recruit Training School Swabi till date of dismissal i.e. 15.09.2015 and absented himself for 02 months and 07 days.

His previous appeal was filed by RPO, DIKhan vide order No. 4023/ES, dated 16.10.2015 and CPO No. S/6330-39/15, dated 23.12.2015.

Order issued vide No. S/6330-39/15, dated 23.12.2015 by the CPO is hereby withdrawn by the Competent Authority as new facts and cause of action emerged in the representation of the applicant not covered previously.

Meeting of Appeal Board was held on 26.11.2015 wherein appellant was called and heard in person. Petitioner contended that he was ill. He also produced bed rest for 15 days. Petitioner further contended that he was present on duty in the office of RPO, DIKhan and produced a copy of attendance register for the month of August and September.

Keeping in view his 14 years, 01 month and 18 days service at his credit as well as above facts, the Board has taken a lenient view and decided that appellant is hereby re-instated into service and the intervening period including period of absence from duty be considered in service but not on duty and he will not be entitled for salary of the intervening period. He shall be deputed for next Recruit Course commencing w.e.f 10.07.2016 failing which he must be dismissed from service. He will remain under special report.

This order is issued with the approval by the Competent Authority.

*Najeeb*  
(NAJEEB-UR-REHMAN BUCVD)  
AIG/Establishment,  
For Inspector General of Police,  
Khyber Pakhtunkhwa,  
Peshawar.

No. SI 4678-86 /16.

Copy of the above is forwarded to the:

1. Regional Police Officer, DIKhan.
2. District Police Officer, DIKhan.
3. PSD to IGP/Khyber Pakhtunkhwa, CPO Peshawar.
4. PRO to IGP/Khyber Pakhtunkhwa, CPO Peshawar.
5. PA to Addl: IGP/HQrs: Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
6. PA to DIG/HQrs: Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
7. PA to AIG/Establishment, CPO, Peshawar.
8. Office Supdt: E-1 / CPO Peshawar.
9. Central Registry, CPO.